

## الْأَنْبِيَاءَ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

نزدیک آپہنچا ہے لوگوں کے لئے انکے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾

نہیں آتی انکے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی مگر وہ اسے سنتے ہیں جبکہ وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِمْ يُحَدِّثُ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل۔ اور چپکے چپکے کرتے ہیں سرگوشیاں ظالم لوگ۔ کہ نہیں یہ مگر ایک شخص تمہارے جیسا۔ تو کیا تم آجاؤ گے جادو میں جبکہ تم دیکھتے ہو۔

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ اسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ افْتَاتُونَ السِّحْرَ وَ انْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴿٣﴾

کہا اس (پیغمبر) نے میرا رب جانتا ہے ہر

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

بات کو آسمان میں اور زمین میں - اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب میں بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اسکو بلکہ یہ ایک شاعر ہے۔ تو لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے کہ بھیجے گئے تھے پہلے (رسول)۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْآوَلُونَ ﴿٥﴾

نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو کیا یہ ایمان لائیں گے۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

اور نہیں ہم نے بھیجے تم سے پہلے مگر وہ آدمی ہی تھے وحی کیا کرتے تھے ہم جنگی طرف۔ تو پوچھ لو ان سے جو یاد رکھتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْهِ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

اور نہیں بنائے تھے ہم نے انکے ایسے جسم کہ نہ کھائیں کھانا اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

پھر سچا کر دیا ہم نے انکے بارے میں اپنا وعدہ تو نجات دی ہم نے انکو اور جسکو چاہا اور ہلاک کر

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ أَهْلَكْنَا

الْمُسْرِفِينَ ﴿١﴾

دیا ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ  
ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

بیشک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف  
ایک کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو کیا  
نہیں تم سمجھتے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً  
وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٣﴾

اور کتنی ہی پیس ڈالیں ہم نے ایسی بستیاں جو  
تھیں ظالم اور اٹھایا ہم نے انکے بعد دوسری  
قوموں کو۔

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا  
يِرْكَضُونَ ﴿٤﴾

پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو وہ  
اس سے بھاگنے لگے۔

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا  
أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تُسْأَلُونَ ﴿٥﴾

مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف وہ کچھ آسائش  
دی گئی تھی تمکو جس میں اور اپنے گھروں کی  
طرف شاید کہ تم سے دریافت کیا جائے۔

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٦﴾

کہنے لگے ہماری شامت بیشک ہم تھے ظالم۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى  
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِدِينَ ﴿٧﴾

تو رہی یہی انکی پکار یہاں تک کہ کر دیا ہم نے  
انکو کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ۔

اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿١٦﴾

اگر ہم چاہتے کہ بنائیں کھیل تماشا تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے۔ اگر ہوتے ہم کرنیوالے۔

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَآءًا لَّيَتَّخِذُنَا مِنْ لَدُنَّا <sup>ط</sup> إِنَّ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾

بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر تو وہ اس کا بھیجنا کال دیتا ہے تو اسی وقت وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اور تمہاری خرابی ہے اس پر جو تم بناتے ہو۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ <sup>ط</sup> وَ لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

اور اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور جو (فرشتے) اسکے پاس ہیں وہ نہیں سبک کرتے اسکی عبادت سے اور نہ تھکتے ہیں۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ <sup>ط</sup> وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ رات اور دن۔ وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

کیا بنائے انہوں نے کچھ معبود زمین میں تو وہ (ان کو مرنے کے بعد) اٹھا کھڑا کریں گے۔

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾



اگر ہوتے ان دونوں (آسمان اور زمین) میں  
معبود اللہ کے سوا تو فساد برپا ہو جاتا ان میں۔ تو  
پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا ان باتوں  
سے جو یہ بناتے ہیں۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ  
لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ  
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٣﴾

نہیں پوچھا جاسکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور وہ  
باز پرس کئے جائیں گے۔

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ  
يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

کیا بنائے میں انہوں نے اسکے سوا معبود۔ کہدو  
کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ نصیحت ہے انکے لئے جو  
میرے ساتھ ہیں اور نصیحت ہے انکے لئے جو  
مجھ سے قبل ہوئے ہیں۔ بلکہ ان میں اکثر  
نہیں جانتے حق کو۔ پس وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ قُلُ  
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ  
وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول  
مگر وحی کرتے رہے ہم اسکی طرف کہ نہیں  
کوئی معبود سوا میرے تو میری ہی عبادت کرو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا ہے رحمن نے بیٹا وہ  
پاک ہے۔ بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ  
بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

نہیں بڑھتے اسکے آگے بولنے میں۔ اور وہ اسکے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

وہ جانتا ہے جو کچھ ہے انکے سامنے اور جو کچھ ہے انکے پیچھے۔ اور نہیں سفارش کر سکتے وہ۔ مگر اس کی جس سے وہ خوش ہوا اور وہ اسکے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

اور جو کہے ان میں سے کہ یقیناً میں معبود ہوں اس کے سوا تو اسے سزا دیں گے ہم دوزخ کی۔ ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔

وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انکو جدا کر دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز تو کیوں نہیں یہ ایمان لاتے۔

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ وہ ڈولنے لگے ان کو لیکر۔ اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے تاکہ وہ راہ پر چلیں۔

وَ جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِجَالًا مَّا يَمْشُونَ وَ جَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا مَّا يَمْشُونَ وَ جَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا مَّا يَمْشُونَ وَ جَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا مَّا يَمْشُونَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت۔ اور وہ اسکی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا  
وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ  
يَسْبَحُونَ ﴿٢٤﴾

اور نہیں بنائی ہم نے کسی بشر کے لئے تم سے پہلے ہمیشہ کی زندگی۔ پھر کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ  
أَفَأَيْنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا۔ اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمکو برے میں اور اچھے میں آزمائش کے طور پر۔ اور ہماری طرف تم لوٹو گے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمُ  
بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا  
تُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾

اور جب تمکو دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا تو نہیں ٹھیراتے تمکو مگر ہنسی مذاق میں۔ کیا یہ ہی ہے وہ جو ذکر کیا کرتا ہے تمہارے معبودوں کا (برائی سے)۔ حالانکہ وہ رحمن کے ذکر سے منکر ہیں۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  
يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا هَذَا الَّذِي  
يَذْكُرُ اهْتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ  
الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾

بنایا گیا ہے انسان جلدبازی سے۔ عنقریب  
میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں تو نہ جلدی کرو  
تم مجھ سے۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ  
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٢٧﴾

اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگی یہ دھکی (پوری)  
اگر تم ہو سچے۔

وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

کاش کہ جان لیتے وہ جہنوں نے کفر کیا اس  
وقت کو جب نہ روک سکیں گے وہ اپنے  
چہروں پر سے آگ کو اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے  
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا  
يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ  
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٩﴾

بلکہ واقع ہوگی ان پر اچانک۔ تو ہوش کھو  
دے گی انکے۔ پھر نہ تو انکو طاقت ہوگی اسکو  
ہٹانے کی اور نہ انکو مہلت دی جائے گی۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ  
يُنظَرُونَ ﴿٣٠﴾

اور یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا ہے رسولوں کا تم  
سے پہلے تو آگھیرا انکو جو تمسخر کیا کرتے تھے  
انہیں سے اسی نے جکا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ  
فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا  
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣١﴾

کہو کہ کون ہے جو حفاظت کر سکتا ہے تمہاری

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ



رات اور دن میں رحمن سے۔ بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

کیا انکے کوئی معبود ہیں کہ بچا سکیں انکو ہمارے سوا۔ نہیں وہ استطاعت رکھتے خود اپنی ہی مدد کی اور نہ انہیں ہماری طرف سے رفاقت حاصل ہوگی۔

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ مَنَعَهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

بلکہ بہت سامان زندگی دیا ہم نے ان لوگوں کو اور انکے باپ داداؤں کو یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان کی عمر۔ تو کیا نہیں یہ دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اسکے کناروں سے۔ تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

کھدو صرف یہ کہ میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کے مطابق۔ اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب بھی انہیں تشبیہ کی جاتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

اور اگر چھو بھی جائے انکو ایک لپٹ تیرے رب کے عذاب کی تو یقیناً کہنے لگیں کہ ہائے

وَلَيْنَ مَسْتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا

کم بختی ہماری بیشک ہم ہی تھے ظالم۔

وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ  
الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ  
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا  
بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾

اور قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کی قیامت  
کے دن تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا  
بھی۔ اور اگر ہو گا (کسی کے عمل کا) وزن  
برابر رائی کے دانے کے تو ہم لے آئیں گے  
اس کو۔ اور کافی ہیں ہم حساب کرنے کو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ  
وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

اور بیشک ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو  
الفرقان اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لئے۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ هُمْ  
مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور  
وہ قیامت کی گھڑی کا خوف رکھتے ہیں۔

وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ  
لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

اور یہ ایک نصیحت ہے بابرکت نازل کیا ہے  
ہم نے جسے۔ تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو۔

وَ لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن  
قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

اور بیشک ہم نے دی تھی ابراہیم کو ہدایت  
اس سے پہلے اور ہم تھے اسکو جاننے والے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَذِهِ

جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی برادری

والوں سے کیسی ہیں یہ مورتیں وہ تم جنکی  
(پرستش پر) جمے ہوئے ہو۔

التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا  
عِكْفُونَ ﴿٥٢﴾

وہ کہنے لگے کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا  
کو انکی عبادت کرتے ہوئے۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾

کہا اس نے یقیناً تم ہو۔ تم اور تمہارے باپ  
دادا۔ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

وہ بولے کیا تم لائے ہو حق یا تم مذاق کرنے  
والوں میں ہو۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ  
اللَّعِينِينَ ﴿٥٥﴾

کہا اس نے نہیں بلکہ تمہارا رب رب ہے  
آسمانوں اور زمین کا وہ جس نے انکو پیدا کیا ہے۔  
اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں ہوں۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى  
ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا  
تمہارے بتوں کے ساتھ اسکے بعد کہ تم چلے  
جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔

وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ  
أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

پھر کر ڈالا اس نے انکو ریزہ ریزہ سوائے انکے

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

بڑے کے شاید کہ وہ اسکی طرف رجوع کریں۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِهْتِنَاءٍ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

کہنے لگے جس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

انہوں نے کہا کہ سنا ہے ہم نے ایک جوان کو انکا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اسے ابراہیم۔

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

وہ بولے کہ لاؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہ رہیں۔

قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِهْتِنَاءٍ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾

انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم۔

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

اس نے کہا بلکہ کیا ہو گا یہ ان کے اس بڑے نے۔ تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

پھر پلٹے وہ اپنے دلوں کی طرف تو کہنے لگے بیشک تم ہی ظالم ہو۔

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

پھر اوندھے کئے گئے اپنے سروں پر۔ یقیناً تو



جانتا ہے نہیں یہ کچھ بولتے۔

عَلِمَتْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

اس نے کہا کیا پھر پوجتے ہو تم اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکیں کچھ بھی اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔

قَالَ افْتَعِبُ دُونَ مِنْ دُونَِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

تف ہے تم پر اور جنکو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کیا نہیں تم عقل رکھتے۔

أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

وہ کہنے لگے جلا ڈالو اسکو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا سرد اور سلامتی والی ابراہیم پر۔

قُلْنَا يَتْلُو كُوْنِي بَرْدًا وَ سَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

اور ارادہ کیا تھا انہوں نے اسکے ساتھ برائی کا تو کر دیا ہم نے انکو نقصان اٹھانے والوں میں۔

وَ ارَادُوا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاٰخُسِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

اور بچا نکالا ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف وہ کہ برکت رکھی تھی ہم نے جس میں اہل عالم کے لئے۔

وَ بَجَّيْنٰهٖ وَ لُوْطًا اِلٰى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

اور عطا کئے ہم نے اسکو اسحق۔ اور یعقوب  
مزید بھی۔ اور سب کو بنایا تھا ہم نے صالح۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً  
وَكَلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

اور بنایا تھا ہم نے انکو امام کہ وہ ہدایت کرتے  
تھے ہمارے حکم سے اور وحی بھیجی ہم نے  
انکی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم  
کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی۔ اور تھے وہ ہماری  
ہی عبادت کرنے والے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا  
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  
وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

اور لوط کہ عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم  
اور نجات دی ہم نے اسے اس بستی سے جو  
کیا کرتی تھی گندے کام۔ بیشک تھے وہ لوگ  
بدکردار فاسق۔

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ  
سَوَۃٍ فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾

اور داخل کیا ہم نے اسے اپنی رحمت میں۔  
بیشک وہ تمھانیک لوگوں میں۔

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

اور نوح کہ جب پکارا اس نے اس سے پیشتر تو  
قبول فرمائی ہم نے دعا اسکی اور نجات دی

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ  
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ

الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

اسکو اور اسکے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ  
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

اور نصرت بخشی ہم نے اسکو ان لوگوں پر جو تکذیب  
کرتے تھے ہماری آیتوں کی۔ بیشک تمہے وہ  
لوگ برے سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔

وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي  
الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ  
وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

اور داؤد اور سلیمان کہ جب وہ فیصلہ کرنے لگے  
کھیتی کا جب رات میں پر گنتیں اسمیں بکریاں  
لوگوں کی۔ اور تمہے ہم انکے فیصلے کے گواہ۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كَلَّا  
آتَيْنَا  
حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ  
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا  
فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

تو سمجھا دیا ہم نے اسکا (صحیح فیصلہ) سلیمان کو۔  
اور دونوں کو عطا کی ہم نے حکمت اور علم۔ اور  
مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو  
کہ تسبیح کرتے تھے وہ اور پرندے۔ اور ہم ہی  
تمہے ایسا کرنے والے۔

وَ عَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُوسٍ لِّكُمْ  
لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  
شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

اور سکھا دی ہم نے اسکو صنعت لباس (زرہ)  
کی تمہارے لئے تاکہ وہ بچائے تمکو تمہاری  
لڑائی (کے ضرر) سے۔ پس کیا تم ہو شکر گزار۔

اور سلیمان کے لئے (تابع کر دی ہم نے) تیز  
ہوا جو چلتی تھی اسکے حکم سے اس زمین کی  
طرف برکت رکھی تھی ہم نے جس میں۔ اور  
میں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے۔

وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي  
بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا  
فِيهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

اور (تابع کر دیے اس کے) شیاطین میں سے  
جو غوطہ خوری کرتے تھے اسکے لئے اور کیا  
کرتے تھے دوسرے کام اسکے علاوہ۔ اور تھے  
ہم انکے نگہبان۔

وَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ  
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَ كُنَّا  
لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

اور ایوب کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو  
کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر  
رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔

وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي  
مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ  
الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی پھر دور کر دی جو  
تھی اسے تکلیف اور عطا فرمائے ہم نے  
اسکے اہل و عیال اور اتنے ہی مزید انکے ساتھ  
۔ یہ مہربانی ہماری طرف سے اور نصیحت  
عبادت کرنے والوں کے لئے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ  
ضُرِّهِ وَ أَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ  
مَعَهُمْ رَاحِمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا  
لِّلْعَبِيدِ ﴿٨٤﴾

اور اسماعیل اور ادریس اور ذالکفل۔ یہ سب

وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ



كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ <sup>صلج</sup> ٨٥

صبر کرنے والوں میں سے تھے۔

وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ٨٦

اور داخل کیا ہم نے انکو اپنی رحمت میں۔  
بلاشبہ وہ صالحین میں سے تھے۔

وَذَالنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ <sup>صلج</sup> ٨٧

اور مچھلی والا جب چل دیا وہ غصے میں پھر خیال کیا اس نے کہ ہرگز نہیں ہم گرفت کریں گے اس پر۔ پھر پکارا اس نے اندھیروں میں سے کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے تو پاک ہے۔  
بیشک میں ہوں قصورواروں میں سے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ ٨٨

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی اور نجات بخشی اسکو غم سے۔ اور اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ہم ایمان والوں کو۔

وَ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ <sup>صلج</sup> ٨٩

اور زکریا کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی اور عطا کیا ہم نے

اسکو بھیجی اور درست کر دیا ہم نے اسکے لئے  
اسکی بیوی کو۔ بیشک یہ لوگ جلدی کیا کرتے  
تھے نیک کاموں میں اور پکارتے تھے ہمیں  
امید اور خوف سے اور کیا کرتے تھے ہمارے  
آگے عاجزی۔

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا  
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا  
رَغْبًا وَ رَهْبًا وَ كَانُوا لَنَا  
خَشِيعِينَ ﴿١٠﴾

اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی عصمت  
کی۔ تو پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح  
میں سے اور بنا دیا اسکو اور اسکے بیٹے کو ایک  
نشانی اہل عالم کے لئے۔

وَ النَّبِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا  
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا  
آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

بیشک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت  
ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی  
عبادت کیا کرو۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا  
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٢﴾

اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے  
معاہدے کو آپس میں۔ سب کو ہماری طرف  
لوٹ کر آنا ہے۔

وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ  
إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿١٣﴾

پس جو کرے گانیک اعمال اور وہ ہوگا مومن تو  
نہیں رائیگاں جائے گی اسکی کوشش۔ اور یقیناً  
ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا  
لَهُ كَاتِبُونَ ﴿١٤﴾

اور حرام ہو چکا ہے کسی بستی پر جسے ہم نے  
ہلاک کر دیا کہ وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے۔

وَ حَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا  
أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں یا بوج اور  
ما بوج اور وہ ہر بندی سے نکل پڑیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ  
وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

اور قریب آجائے وعدہ سچا۔ تو ناگماں وہ پھٹی کی  
پھٹی رہ جائیں آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے  
کفر کیا۔ ہائے شامت ہماری یقیناً ہم رہے  
غفلت میں اس سے بلکہ ہم ہی تھے ظالم۔

وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ  
شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يُوِيلِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا  
بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

یقیناً تم اور وہ جنکی عبادت کرتے ہو تم اللہ  
کے سوا ایندھن ہونگے دوزخ کا۔ تم سب  
اس میں داخل ہو کر رہو گے۔

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا  
وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

اگر ہوتے یہ لوگ معبود تو نہ داخل ہوتے اس  
میں۔ اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

لَوْ كَانَ هُوَ آلهَةً مَّا وَرَدُوهَا  
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

انکے لئے ہوگا وہاں چلانا اور وہ اس میں نہ کچھ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهَا لَا

يَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾

سن سکیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ  
أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١١﴾

بیشک وہ لوگ پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے جن  
کے لئے ہماری طرف سے بھلائی۔ وہ اس  
سے دور رکھے جائیں گے۔

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا  
اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿١٢﴾

نہیں سنیں گے وہ اسکی سرسراہٹ بھی۔ اور  
وہ ان میں جن کی خواہش کریں گے ان کے  
جی ہمیشہ رہیں گے۔

لَا يَجْزُهُمْ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ  
وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ  
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٣﴾

نہیں غمگین کرے گا انکو بڑا بھاری خوف  
بھی۔ اور لینے آئیں گے انکو فرشتے۔ یہی وہ  
تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ  
لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ  
نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا  
فَاعِلِينَ ﴿١٤﴾

جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح  
جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں طومار مکتوبات  
کے۔ جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی خلق  
کی ہم اس کا اعادہ کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے  
ہم پر۔ یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ

اور بیشک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت



کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے  
وہ بندے جو صالح ہوں گے۔

الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  
الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

یقیناً اس میں تبلیغ ہے عبادت کرنے والے  
لوگوں کے لئے۔

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ  
عَبِيدِينَ ﴿١٠٦﴾

اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمکو (اے نبی  
ﷺ) مگر رحمت بنا کر تمام جانوں کے لئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

کہدو کہ بس وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ  
در حقیقت تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے  
تو کیا تم فرمانبردار ہو جاتے ہو۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ  
وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

پھر اگر یہ منہ پھیریں تو کہدو کہ میں نے آگاہ کر  
دیا ہے تم سب کو یکساں طور پر۔ اور نہیں مجھکو  
معلوم کہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے  
وعدہ کیا جاتا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ  
وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا  
تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

یقیناً وہ جانتا ہے پکار کر کی جانے جو بات اور وہ  
جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ  
يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

اور نہیں میں جانتا شاید وہ آزمائش ہو تمہارے  
لئے اور فائدہ اٹھاتے رہنا ایک مدت تک۔

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَّكُمْ  
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

کہا اس نے اے میرے رب فیصلہ کر دے  
حق کے ساتھ۔ اور ہمارا رب مہربان ہے  
مددگار ہے اسپر جو تم بیان کرتے ہو۔

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا  
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا  
تَصِفُونَ ۚ ﴿١١٢﴾

